

# Quranic Arabic Grammar

## قرآنک عربک گرامر

### Lesson - III

## شیخ ارشد بشیر عمری مدنی

Shaikh Arshad Basheer Umari Madani

Hafiz, Aalim, Faazil (Madina University, KSA), MBA.

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Chairman: Ocean The ABM School, Hyd.

📞 +91 92906 21633 (whatsapp only)



اء		ى		ة	
مؤنث	مذكر	مؤنث	مذكر	مؤنث	مذكر
صَفْرَاءُ	أَصْفَرُ	كُبْرَى	أَكْبَرُ	صَادِقَةٌ	صَادِقٌ
خَضْرَاءُ	أَخْضَرُ	صَغْرَى	أَصْغَرُ	قَرِيبَةٌ	قَرِيبٌ
زَرْقَاءُ	أَزْرَقُ	بُشْرَى	بُشَيْرٌ	أَتِيَةٌ	أَتٍ
بَيْضَاءُ	أَبْيَضُ	حَسْنَى	أَحْسَنُ	حَسَنَةٌ	حَسَنٌ
سَوْدَاءُ	أَسْوَدُ			سَيِّئَةٌ	سَيِّئٌ
حَوْرَاءُ	أَحْوَرُ			صَابِرَةٌ	صَابِرٌ
عَمِيَاءُ	أَعْمِي			قَانِتَةٌ	قَانِتٌ
بِكَاءُ	أَبْكَمُ			مَسْلَمَةٌ	مَسْلَمٌ
عَوْرَاءُ	أَعْوَرُ			سَاجِدَةٌ	سَاجِدٌ

نوٹ: اکثر و بیشتر زبانوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔

جب مخاطب مذکر و مؤنث دونوں ہی کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں۔

NOTE: Aksar wa baishitar zabaano mein muzakkar aur muannas dono ke liye mukhtalif alfaaz paaye jate hai. Arabic mein bhi aisa hi hai. Jab Mukhatib muzakkar wa muannas dono hi ko ek lafz me bayan karna chahe toh phir iska ke liye muzakkar ke alfaz istemaal kiye jaate hai jis me khawateen khud ba khud shamil hoti hai.

NOTE: :In most of the languages different words are used to refer male and female, the case is similar for Arabic. However, when we want to refer both males and females together, then we use the masculine words and the females are automatically included in it.

<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تاء (ة) ہو، مؤنث سمجھے جاتے ہیں اگرچہ حقیقتاً وہ مؤنث نہ بھی ہوں۔ صَلَوَةٌ (نماز)، جَنَّةٌ (باغ)، حَسَنَةٌ (نیکی) وغیرہ۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir mein gol taa (ة) ho, Muannas samjhe jate hai agarche haqeeqatan woh muannas na bhi ho. Masalan: Salatun, Jannatun, Hasanatun wagairah.</p> <p>Those words which ends with a round ' (ة) ' are considered as feminine, however they are not female nouns. Example: Salah, garden, deeds etc.</p>	<p>۱</p>
<p>نوٹ: مذکر کے آخر میں بھی گول تاء لگا کر اسے مؤنث بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے: عالم سے عالمت، ساجد سے ساجدة۔ اس قاعدے سے متعدد الفاظ مستثنیٰ ہیں۔ جیسے: خلفة (خلیفہ)، علامة (بڑا عالم) وغیرہ۔</p> <p>Muzakkar ke akhir mein bhi gol taa lagakar ise muannas banaya jaa sakta hai. Jaise : Aalim se aalimatun, sajid se sajidatun. Is qaide se mutadid alfaaz mutashni hai. Jaise (khaleefa), (Bada Aalim) wagaira.</p> <p>Example: Aalim to Aalima-tun, Sajid to Sajida-tun. Masculine words can be changed to feminine by adding round 'ta' at the end. However there are few exceptions like words: Khaleefa, Alaama etc</p>	<p>۲</p>
<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں "اء" ہو، انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ سَوْدَاءُ (سیاہ خاتون)، بَيْضَاءُ (سفید خاتون) وغیرہ۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir me "alif hamza" ho , inhe bhi muannas samjha jata hai. Masalan : (Saudaau), (Baizaau) wagairah.</p> <p>Those words which ends with 'alif and hamza' are considered as feminine Nouns. Example Sauda, Bayda, etc,</p>	<p>۳</p>
<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں "ی" ہو، انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ صغریٰ (چھوٹی)، کبریٰ (بڑی)، عظمیٰ (عظیم خاتون) وغیرہ۔ اس "ی" کو "الف" پڑھا جاتا ہے۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir me "ya" ho, inhe bhi muannas samjha jata hai. Masalan :(Choti), (Badi),(Azeem Khatoon) wagairah. Is "ya" ko "alif" padha jata hai.</p> <p>Those words which ends with 'Arabic YA' are considered as feminine nouns. However Ya is pronounce as Alif. Example Sughra, Kubra, etc.</p>	<p>۴</p>
<p>مؤنث حقیقی: یہ وہ اسم ہے جو کسی حقیقی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً: جَارِيَةٌ (لڑکی)، اُمُّ (ماں)، اُحْتٌ (بہن)، بِنْتُ (بیٹی) وغیرہ۔</p> <p>Muannas Haqeeqi : yeh woh ism hai jo kisi haqeeqi muannas ke liye istemaal hota hai. Masalan : ladki, Maa, Behen, beti wagairah.</p> <p>Original Feminine Nouns: Nouns which are by itself feminine in nature are considered as feminine nouns. Example Jaariyah, Ummun, Ukhtun, Bintun, etc.</p>	<p>۴</p>

## Arshad Basheer Madani Notes

مؤنث غیر حقیقی: ہر زبان میں بے جان اشیاء کے نام بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث۔ اہل زبان انہیں مذکر یا مؤنث فرض کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری میں مؤنث۔ جیسے اردو میں درخت مذکر ہے جبکہ عربی میں شجرۃ مؤنث ہے۔ اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث ہوتی ہے مگر عربی میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زبان سیکھتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زبان کے لوگ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر چند اصول یاد کر لیجئے:

Muannas ghair Haqeeqi : Har zubaan me bejaan ashaya ke naam bhi hote hai jo haqeeqat me na toh muzakkar hote hain aur na hi muannas. Ahle zabaan ne inhe muzakkar ya muannas farz karlete hai. Mumkin hai k eek lafz zubaan me muzakkar ho aur dosre me muannas. Jaise urdu me darakht muzakkar hai jabke arabi me shajrah muannas hai. Isi tarah urdu mein kitaab muannas hoti hai magar arabi me ise muzakkar samjha jata hai. Is mauqe par chand usool yaad karli jiye.

None living things are considered as Masculine or Feminine according to Arab culture. There is no "it" in Arabic language. Example Trees are feminine in Arabic.

مندرجہ ذیل الفاظ ہر حال میں مؤنث ہی سمجھے جائیں گے: اَرْضُ (زمین)، حَرَبٌ (جنگ)، سَمَاءٌ (آسمان)، رِيحٌ (ہوا)، نَفْسٌ (جان)، شَخْصِيَّةٌ (ناڑ (آگ)، شَمْسٌ (سورج)، مَلَكٌ (ملکوں کے ناموں کو بھی مؤنث ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے انسانی اعضاء جو دو دو ہیں، کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے جیسے: يَدٌ (ہاتھ)، رِجْلٌ (پاؤں)، اُذُنٌ (کان) وغیرہ۔

Mundarijah zail Alfaaz har hal me muannas hi samjhein jayege : (zameen), (jung), (Aasmaan), (Hawa), (Jaan, shaksiyat)

Mulko ke naamo ko bhi muannas hi samjha jayega . Jaise : Egypt, Syria, Pakistan wagairah Aise Insaani aa'zaa jo (do do ) hai, is ko bhi muannas samjha jata hai jaise: (Hath), (Paoon), (Kaan) wagairah.

There are some words in Arabic language which are by itself feminine and they have evolved with time. Like names of countries, dual body parts, Earth etc. are all feminine.

## Arshad Basheer Madani Notes

## Exercise : 1

Identify and Indicate the Masculine and Feminine words

muzakkar aur mu'annas ko pahchaniye aur in ki nashaandahi kijiye

مذکر اور مؤنث کو پہچانے اور ان کی نشاندہی کیجیے۔

مذکر یا مؤنث Muzakkar ya mu'annas Masculine or Feminine word	معنی   Mana   Meaning	لفظ   Lafz   Word
مذکر	پیلا	أَصْفَرُ
	پیلی	صَفْرَاءُ
	سبز	أَخْضَرُ
	سبز	خَضْرَاءُ
	سرخ	أَحْمَرُ
	سرخ	حَمْرَاءُ
	نیلا	أَزْرَقُ
	نیلی	زَرْقَاءُ
	خوبصورت ترین	أَحْسَنُ
	خوبصورت ترین	حُسْنَى
	سچا	صَادِقٌ
	سچی	صَادِقَةٌ
	گواہ، دیکھنے والا	شَاهِدٌ
	گواہ، دیکھنے والی	شَاهِدَةٌ
	جھوٹا	كَاذِبٌ
	جھوٹی	كَاذِبَةٌ

## Exercise : 2

Indicate the masculine and feminine forms

Muzakkar aur mu'annas ki nashaandahi kijiye

مذکر اور مؤنث کی نشاندہی کیجیے۔

1. رسول (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
2. رسالة (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
3. كتاب (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
4. مريم (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
5. كلمة (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
6. مصر (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
7. حسنى (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
8. دجاجة (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
9. امرأة (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)
10. ام (مذکر \_\_\_\_\_ مؤنث \_\_\_\_\_)

## Exercise : 3

Interchange Masculine to Feminine

Muzakkar se mu'annas banaeye

مذکر سے مؤنث بنائیے۔

مؤنث Mu'annas   Feminine	مذکر Muzakkar   Masculine	مؤنث Mu'annas   Feminine	مذکر Muzakkar   Masculine
	أَسْوَدُ (سیاہ)	نصيرة	نَصِيْبَةٌ (مددگار)
	أَخْضَرُ (سبز)		وَالِدٌ (باپ)
	أَبْيَضُ (سفید)		أَصْفَرُ (پیلا)
	أَخٌ (بھائی)		قَبِيْحٌ (بد صورت)
	أَزْرَقُ (نیلا)		شَاهِدٌ (گواہ)

	تَحَالُّ (ماموں)		أَحْمَرٌ (سرخ)
	كَبِيرٌ (بڑا)		حَسَنٌ (اچھا)
	أَبٌ (باپ)		صَغِيرٌ (چھوٹا)
	هُذَا (یہ)		أَحْسَنُ (خوبصورت ترین)
	شَدِيدٌ (سخت)		عَمٌّ (چچا)
	زَاهِدٌ (پرہیزگار)		صَادِقٌ (سچا)
	فَاسِقٌ (بد کردار)		كَاذِبٌ (جھوٹا)
	رَجِيمٌ (مہربان)		عَرِيْسٌ (دولہا)
	رَعِيْمٌ (لیڈر)		عَائِدٌ (عبادت گزار)

Identify and Mention Feminine nouns from Sooratul Takveer and Sooratul Shams

Suratut takaweer aur surtush shams ki raushni me mu'annas ko pahchaniye aur likhiye

" سورة التکویر " اور " سورة الشمس " کی روشنی میں مؤنث کو پہچانے اور لکھیے ۔

سورة الشمس	سورة التکویر



## Arshad Basheer Madani Notes


## Exercise : 5

Fill in the blanks with Appropriate words

Munaasib alfaz k zariye khana puri kijiye

مناسب الفاظ کے ذریعہ خانہ پری کیجیے

- |           |       |         |    |
|-----------|-------|---------|----|
| ( قریب )  | ..... | الساعة  | .1 |
| ( قریبہ ) | ..... | عائشة   | .2 |
| ( عالم )  | ..... | صغری    | .3 |
| ( عالمہ ) | ..... | الدجاجة | .4 |
| ( صائم )  | ..... | القلم   | .5 |
| ( صائمہ ) | ..... |         |    |
| ( حمراء ) | ..... |         |    |
| ( احمر )  | ..... |         |    |
| ( سوداء ) | ..... |         |    |
| ( اسود )  | ..... |         |    |

## Exercise : 6

Change the below lines in to Feminine Form

in jumloon ko mu'annas me badaliye

ان جملوں کو مؤنث میں بدلیے

ذلك كتاب	نجاح المسلم
الكلب احمر	فاز التلميذ
القلم اسود	صلى المؤمن
هذا جوال	جاء خالد
	هذا زيد

## Arshad Basheer Madani Notes

## Exercise : 7

i. نیچے دیے گئے الفاظ سے مؤنث کا انتخاب کرتے ہوئے اقسام کے لحاظ سے ترتیب دیں:

Diye gaye alfaaz se muannas ka intekhaab karte howe aqsaam ke lihaaz se tarteeb den


Choose the feminine words from the given words and differentiate between them.

آمِنَةٌ - إِخْلَاصٌ - إِرْمٌ - إِسْرَاءٌ - أَسْمَاءٌ - أَمَانَةٌ - آيَةٌ - بَرَاءَةٌ - بَشْرَى - بِنْتٌ - بَهْجَةٌ - تَحِيَّةٌ - تَسْنِيمٌ - تَقْوَى - تَقِيٌّ - جِهَادٌ - جَنَّةٌ - حَسَنَةٌ - حَيَاةٌ - حُورٌ - دَانِيَةٌ - دُعَاءٌ - دُنْيَا - ذِكْرَى - رَحْمَةٌ - رَوْضَةٌ - زَكِيَّةٌ - زَهْرَةٌ - زِينَةٌ - سَلْوَى - شَرَعَةٌ - شِفَاعَةٌ - شِفَاءٌ - صِدِّيقَةٌ - صَفَا - ضَحَى - ضِيَاءٌ - طَيْبَةٌ - عَالِيَةٌ - عِرَّةٌ - فِدَاءٌ - فَضَةٌ - قِسْمَةٌ - قَرٌّ - لِقَاءٌ - مَائِدَةٌ - مَأْوَى - مَرْوَةٌ - مَرْيَمٌ - مُنْتَهَى - مَوْدَةٌ - نَبَأٌ - نَجْوَى - نِدَاءٌ - نُورٌ - وَرْدَةٌ - وَسِيلَةٌ - وَلايَةٌ - يَمْنَى - يَسْرَى - يَأْقُوتٌ





مؤنث غیر حقیقی	اء	ی	ة





**Vocabulary**

Good News for  
**NURSERY, LKG AND UKG STUDENTS**



AskIslamPedia

 Dog کتا	<b>الْكَلْبُ</b> KALB	 Cat بلی	<b>الْقِطُّ</b> QIT
 Cow گائے	<b>الْبَقَرَةُ</b> BAQARAH	 Mouse چوہا	<b>الْفَأْرُ</b> FA'R

 Alligator مگرچھ	<b>التِّمْسَاحُ</b> TIMSAAH	 Horse گھوڑا	<b>الْفَرَسُ</b> FARAS
 Bird چڑیا	<b>الطَّائِرُ</b> TAA'ER	 Rabbit خرگوش	<b>الْأَرْنَبُ</b> ARNAB

AskIslamPedia  
Arshad Basheer Madani Notes

 Falcon باز / شاهین / شکره	<b>الصَّقْرُ</b> SAQR	 Bear رینجھ	<b>الدُّبُّ</b> DUBB
 Giraffe شراف	<b>الزَّرَافَةُ</b> ZARAFAH	 Elephant ہاتھی	<b>الفِیْلُ</b> FEEL

AskIslamPedia  
Arshad Basheer Madani Notes

 Monkey بندر	<b>الْقِرْدُ</b> QIRD	<b>الْبَبْرُ</b> AL-BABRU	
<b>الْأَسَدُ</b> ASAD		 Snake سانپ	<b>الْحَيَّةُ</b> HAYYAH

AskIslamPedia  
Arshad Basheer Madani Notes



**Conversation**

## التحيات

روز مرہ بات چیت میں استعمال ہونے والے چھوٹے چھوٹے مفید جملے

# welcome

Greetings	سلام دعا	التحيات		
Optional	English	اردو	Roman	عربي
وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ	May The peace mercy and blessings of Allaah subhanahu wata'aala be up on you, welcome	تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں، خوش آمدید	Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh, Ahlan Wa sahlan wa Marhaba	السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا
كَيْفَ حَالُكَ؟ كَيْفَ أَنْتُمْ؟	Good morning!	صبح بخیر	Kaifa Asbahta? Sabaahal Khair?	كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ صَبَاحَ الْخَيْرِ
	Good afternoon!	گڈ آفٹرنون	Nahaaruka saeed	نَهَارُكَ سَعِيدٌ
	Good evening!	شب خیر	Kaifa Amsaita? Masaa'al Khair	كَيْفَ أَمْسَيْتَ؟ مَسَاءَ الْخَيْرِ
أَهْلًا وَسَهْلًا وَمَرْحَبًا أَهْلًا يَا شَيْخَ / يَا أُخْتِي	Welcome! (to greet someone)	خوش آمدید	Marhaba	مَرْحَبًا
أَهْلًا يَا أُخْتِي / يَا أُخْتِي	Welcome my friend!	خوش آمدید اے دوست	Ahlan ya sadiqi	أَهْلًا يَا صَدِيقِي
كُلُّ تَمَامٍ / زَيْنٍ / أَيُّشٍ أَحْبَابُكَ؟	How are you? (polite)	آپ کیسے ہیں؟	Kaifa Haalukum	كَيْفَ حَالُكُمْ؟
	How are you? (friendly)	تم کیسے ہو؟	Kaifa Haaluk	كَيْفَ حَالُكَ؟
I'm fine, thank you!		میں ٹھیک ہوں، شکریہ!	Ana Bikhair, Ashkuruk	أَنَا بِخَيْرٍ، أَشْكُرُكَ
And you? (friendly)		اور آپ کیسے ہیں؟	Wa Anta?	وَ أَنْتَ؟



## التحيات

	And you? (polite)	اور آپ کیسے ہیں؟	Wa Antum?	وَ أَنْتُمْ؟
وَأَنَا بِخَيْرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ / وَأَسْعَدَكَ شُكْرًا (جزئيًا)	Good	خیریت سے ہوں۔	Bikhair	بِخَيْرٍ
	Not so good	ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ (کچھ ٹھیک نہیں ہوں کا اشارہ)	Al Hamdulillaahi Ala kulli haal	الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
أَيْنَ كُنْتَ يَا أَخِي؟	I have not seen you since long time.	بہت دنوں سے آپ کا دیدار نہیں ہوا۔	Lam Narak Munzu waqtin taweel / Munzu zamaan ma shufnaak, maa liya laa araaq? maa lak laa ta'teenaa? Laish laa ta'teenaa?	لَمْ نَرَكَ مُنْذُ وَقْتٍ طَوِيلٍ ، مُنْذُ زَمَانٍ مَا شُفْنَاكَ ، مَا لِي لَا أَرَاكَ؟ مَا لَكَ لَا تَأْتِينَا؟ لَيْشَ لَا تَأْتِينَا؟
	I missed you a lot	ہم نے آپ کو کافی یاد کیا۔	Faqadnaak/ tazakkarnaak/ maa nasainaak,	فَقَدْنَاكَ / تَذَكَّرْنَاكَ / مَا نَسِينَاكَ
	What's new?	کیا حال چال ہیں؟ کیا نئی خبر ہے؟	Aish al jadeed minal Akhbaar? Aish Akhbaruk?	أَيْشَ الْجَدِيدِ مِنْ الْأَخْبَارِ؟ أَيْشَ أَخْبَارِكَ؟
كَيْفَ الْأَهْلُ؟ كَيْفَ الْأَوْلَادُ؟ كَيْفَ الْأُسْرَةَ؟ كَيْفَ أُمُّكَ وَأَبُوكَ؟ كَيْفَ شُغْلُكَ كُلُّ تَمَامٍ؟	Nothing new	کوئی خاص نہیں	Maa fee jadeed, Maa Fish	مَا فِي جَدِيدٍ، مَا فِيْشَ
جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا / بَارَكَ اللَّهُ أَخِي	Thank you (very much!)	شکریہ (بہت بہت)	Shukran (jazeelan)	شُكْرًا (جَزِيًّا)
لَا أُرِيدُ أَطْوَلَ عَلَيْكَ / مَا لَيْشَ أَرْعَجْتُكَ / سَامِحِي / لَا بَأْسَ	You're welcome! (for "thank you")	کوئی بات نہیں۔	Afwan	عَفْوًا
مَا قَصَّرْتُ / لَعَلِّي أَرْعَجْتُكَ / لَا لَا يَا شَيْخَ أَبَدًا	My pleasure	یہ میرا فرض تھا۔	Haaza min Waajibaati ,min Husni Sa'aadati	هَذَا مِنْ وَاجِبَاتِي، مِنْ حُسْنِ سَعَادَتِي
فَطَّلْ يَا شَيْخَ	Come in! (or: enter!)	تشریف لائیے۔	Tafazzal	تَفَضَّلْ
خُذْ رَاحَتَكَ؟ اِسْتَرِحْ	Make yourself at home!	اسے اپنا ہی گھر سمجھیے	Al-baitu baituk	الْبَيْتُ بَيْتُكَ؟

## تَعَايِيرُ الْوَدَاعِ



### Farewell Expressions


### وداعی کلمات

### تَعَايِيرُ الْوَدَاعِ



Optional	English	اردو	Roman	عربی
	Have a nice day!	آپ کا دن اچھا گزرے۔ ان شاء اللہ	Atamanna laka nahaaran saeedan – In Shaa Allaah	أَتَمَنِّي لَكَ نَهَارًا سَعِيدًا – إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فُرْصَةٌ سَعِيدَةٌ	Good night!	شب بخیر	Lailatun Saeedah	لَيْلَةٌ سَعِيدَةٌ
نِمْتٌ جَيِّدًا/ حُذِّ زَاخَتِكَ	Good night and sweet dreams!	شب بخیر	Lailatun saeedah Wa ahlaam as'adu	لَيْلَةٌ سَعِيدَةٌ وَ أَحْلَامٌ أَسْعَدُ
	See you later!	ان شاء اللہ پھر ملیں گے	Araaka feema ba'd In Shaa Allaah	أَرَاكَ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
نَلْتَقِي قَرِيبًا/ قَرِيبٌ قَرِيبٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ	See you soon!	ان شاء اللہ بہت جلد ملاقات ہوگی	Araaka qareeban In Shaa Allaah	أَرَاكَ قَرِيبًا _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
إِذَا عَدَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ نَلْتَقِي طَيِّبٌ؟	See you tomorrow!	ان شاء اللہ کل ملتے ہیں	Araaka ghadan In Shaa Allaah	أَرَاكَ عَدَا _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
نَبْقِي عَلَيَّ الْإِتِّصَالِ/ نَتَوَاصَلُ مَعَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ	Good bye!	ان شاء اللہ پھر ملتے رہیں گے۔	Ilal liqaa In Shaa Allaah	إِلَى الْإِلْفَاءِ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
فُرْصَةٌ سَعِيدَةٌ/ اللَّهُ يَحْفَظُكَ	Have a good trip!	ان شاء اللہ آپ کا سفر مبارک رہے	Rehlah saeeda In Shaa Allaah	رِحْلَةٌ سَعِيدَةٌ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
لَا بُدَّ/ لَازِمُ السَّفَرِ/ لَازِمُ رُحْ	I have to go	مجھے جانا پڑے گا	Laabudda an arhal In Shaa Allaah	لَا بُدَّ أَنْ أَرْحَلَ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
قَرِيبُ إِلَيْكَ/ أُرِيدُ أَنْ أَذْهَبَ مَعَكَ/ أَنَا أَيْضًا آتِي	I will be right back!	میں ابھی لوٹ آؤنگا	sa-a'oodu qareeban ilaika In Shaa Allaah	سَأَعُودُ قَرِيبًا إِلَيْكَ _ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
أُوَدِّعُكَ مِنْ لَا تَضِيْعُ وَدَائِعِهِ	I entrust to Allaah your religion, your belongings and your final deeds.	میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں تمہارا دین تمہاری امانت اور تمہارے انجام کار کو	Astaudi'ullaaha deenak wa amaanatak wa khawateema amalik	أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

## الأمنيات



Wishes	امنیات	مبارکبادیاں	ج	
Optional	English	اردو	Roman	عربی
	May Allah bless you	مبارک	Mubarak , BarakAllaah	مُبَارَك، بَارَكَ اللهُ
	Ramadan Mubarak!	رمضان مبارک	Ramzan Mubarak wa-taqabbalallaahu minnaa wa-minkum	رَمَضَانَ مُبَارَكَ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ
	Happy Eid Al-adha!	عید الاضحیٰ مبارک	Eedul azhaa saeed wa Mubarak wa-taqabbalallaahu minnaa wa-minkum	عِيدُ الْأَضْحَى سَعِيدٌ وَمُبَارَكٌ وَتَقَبَّلَ اللهُ مِنَّا وَمِنْكُمْ
	Congratulations!	مبارک	Mubarak	مُبَارَك
	Healthy and safety	صحت و عافیت کے ساتھ	Bis-sehhah wal-aafiyah	بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ
	All praises for Allah May Allah have mercy on you May Allah guide you and render sound your state of affairs	اللہ تم پر رحم کرے	Al Hamdulillaah Yarhamukallah, Yahdikumullaah	الْحَمْدُ لِلَّهِ، يَرْحَمُكُمُ اللهُ، يَهْدِيكُمُ اللهُ
	Best wishes!	نیک تمناؤں کے ساتھ	M'a atyabit-tahiyyaat, m'a asdaqit-tahaani wat-tamanniyaat	مَعَ أَطْيَبِ التَّحِيَّاتِ، مَعَ أَصْدَقِ التَّهَانِي وَالْتَمَنِّيَّاتِ
	Take care of your health	صحت کا خیال رکھیے	Bisehhatik	بِصِحَّتِكَ
	Accept my best wishes	میری نیک تمناؤں کو قبول کیجیے	Taqabbal atyaba tamanniyaati	تَقَبَّلْ أَطْيَبِ تَمَنِّيَّاتِي
	Healthy and safety	صحت و عافیت کے ساتھ	Bis-sehhah wal-aafiyah	بِالصِّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ

## كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

AskIslamPedia

Arshad Basheer Madani Notes



How to Introduce Yourself

ذاتی تعارف

كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ



Optional	English	اردو	Roman	عربی
اسْمُكَ آيَش؟	What's your name?	آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟	Masmukal kareem	مَا اسْمُكَ الْكَرِيمِ؟
	My name is ...	میرا نام --- ہے۔	Ismee...	اسْمِي...
مَسْرُورٌ جَدًّا / سُرِّزْتُ بِبِلْقَابِكَ / سُرِّزْنَا بِبِلْقَابِكَ	Nice to meet you!	آپ سے مل کر بہت خوش ہوئی	Saeedun biliqaaik	سَعِيدٌ بِبِلْقَابِكَ
مِنْ فَيِّن؟ / أَصْلُ مِنْ فَيِّن؟ / جَنَسِيَّتُكَ أَيُّ؟ / آيَش جَنَسِيَّتُكَ؟	Where are you from?	آپ کا تعلق کس شہر سے ہے؟	Min ayyi baladin ant?	مِنْ أَيِّ بَلَدٍ أَنْتَ؟
	I'm from India	میرا تعلق ہندوستان سے ہے	Ana min al-Hind	أَنَا مِنَ الْهِنْدِ
	I'm Indian	میں ہندوستانی ہوں	Ana Hindiyyun	أَنَا هِنْدِيٌّ
فَإَيْنَ سَاكِنَ أَنْتَ؟	Where do you live?	آپ کہاں رہتے ہیں؟	Ayena taskun?	أَيْنَ تَسْكُنُ؟
	I live in India	میں ہندوستان میں رہتا ہوں	Ana a'eeshu fil Hind	أَنَا أَعِيشُ فِي الْهِنْدِ
أَعْجَبُكَ أَمْ لَا؟ نَعَمْ أَعْجَبَنِي أَنْتَ مُرْتَاخٌ هُنَا؟ نَعَمْ مُرْتَاخِينَ	How do you feel to be here?	آپ کو یہاں رہ کر کیسا لگ رہا ہے؟	Hal yu'jibukal makaan hina? Kullu tamaam Kaifa tajidu nafsak?	هَلْ يُعْجِبُكَ الْمَكَانُ هُنَا؟ كُلُّ تَمَامٍ كَيْفَ تَجِدُ نَفْسَكَ؟
	India is a beautiful country	ہندوستان ایک خوبصورت ملک ہے	Al-Hindu baladun jameelah	الْهِنْدُ بَلَدٌ جَمِيلَةٌ
	What do you do for a living?	آپ کی مصروفیت کیا ہے؟	Maaza ta'mal?maa shughluk?	مَاذَا تَعْمَلُ؟ مَا شُغْلُكَ؟

## كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

شُعَلِي أَنَا مُهَنْدِس	I'm a (teacher/ student/ engineer)	میں ٹیچر / انجینئر / طالب علم ہوں۔	A'malu (mudarrisan- muhandisan)(ana taalib)	أَعْمَلُ (مُدْرِسًا / مُهَنْدِسًا)، أَنَا طَالِبٌ
عَرَبِيٌّ مَعْلُومٌ؟ أَمْ لَا / مَا فِي مَعْلُومٌ؟	Do you speak (English/ Arabic)?	کیا آپ انگریزی / عربی میں گفتگو کر پاتے ہیں	Hal tatahaddas (al-injleziyah, al- arabiyyah)	هَلْ تَتَحَدَّثُ (الْإِنْجَلِيزِيَّةَ - الْعَرَبِيَّةَ)
مَعْلُومٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَخْلَصُ لَا بَأْسَ / مَا لَيْشَ / يَمَشِي / مَا شَيْ هَذَا	Just a little	تھوڑا تھوڑا	Qaleelan	قَلِيلًا
	I like Arabic Language	میں عربی زبان سے محبت رکھتا ہوں	Ohibbul loghatal arabiyyah	أُحِبُّ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ
أَتَعَلَّمُ سُوَيْ / دَجِين سُوَيْ بَعْدَيْن كَثِيرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ	I'm trying to learn Arabic	میں عربی زبان سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔	Ohaawilu ta'allumal loghatil arabiyyah, ohavilu shuwai Shuwai	أُحَاوِلُ تَعَلَّمَ اللُّغَةَ الْعَرَبِيَّةَ، أُحَاوِلُ سُوَيْ سُوَيْ
صَعْبٌ جَدًّا لَكِنْ سُوَيْ سُوَيْ / إنا أَكْذَرُ أَفْهَمُ سُوَيْ سُوَيْ	It's a very hard language	یہ بڑی کٹھن زبان ہے۔	Innaha lughatun sa'bah	إِنَّهَا لُغَةٌ صَعْبَةٌ
لَا شَيْخَ سُوَيْ سُوَيْ فِي الْبِدَايَةِ بَعْدَيْن تَكْذَرُ تَكْذَرُ أُمُورٌ سَهْلَةٌ / بِإِذْنِ اللَّهِ / أَمْرٌ بَسِيطٌ	It's an easy language	یہ تو آسان زبان ہے	Innaha lughatun sahlah	إِنَّهَا لُغَةٌ سَهْلَةٌ
اللَّهُ يُعْطِيكَ الْعَافِيَةَ / اللَّهُ يَهْدِيكَ الْخَيْرَ	Oh! That's good!	سبحان اللہ! یہ تو بڑی اچھی بات ہے	Subhan-Allaah! Hasan, jayyid jayyid	سُبْحَانَ اللَّهِ! حَسَنٌ ، جَيِّدٌ جَيِّدٌ
سَامِحِينِي / أَنَا أَيْضًا مَعَكَ أُرِيدُ التَّدْرِيْبَ	Can I practice with you?	کیا میں آپ کے ساتھ مشق کر سکتا ہوں	Hal yumkinu li an atadarraba ma'ak?	هَلْ يُمَكِّنُ لِي أَنْ أَتَدْرَبَ مَعَكَ؟
أَنَا مُسْتَعِدٌّ / لَا أَتَعَبُ / أَنَا مُجْتَهِدٌ	I will try my best to learn	میں یہ سیکھنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرونگا	Saufa abzulu qusaara johdi litta'allum	سَوْفَ أَبْذُلُ قُضَايَ جُهْدِي لِتَعَلَّمِ

## كَيْفَ تَقُومُ بِتَعْرِيفِ نَفْسِكَ

	How old are you?	آپ کی عمر کیا ہے؟	Kam umruk?	كَمْ عُمْرُكَ ؟
	I am twenty years old	میں بیس سال کا ہوں	Ablughu minal umuri ishreena aaman/ umri ishroon	أَبْلُغُ مِنَ الْعُمْرِ عَشْرِينَ عَامًا / عُمْرِي عَشْرُونَ
	It was nice talking to you!	آپ سے بات کر کے اچھا لگا	As'adani kalaamuka ma'ee	أَسْعَدَنِي كَلَامُكَ مَعِي
	It was nice meeting you!	آپ سے مل کر خوشی ہوئی	Laqad sa'ettu jiddan biliqaaik	لَقَدْ سَعِدْتُ جِدًّا بِلِقَائِكَ
	Mr.../Mrs...	محترم / محترمة	Assayyid- Assayyidah	السَّيِّدُ ... - السَّيِّدَةُ ..
	This is my wife	یہ میری بیوی ہے	Hazihi zaujati	هَذِهِ زَوْجَتِي
	This is my husband	یہ میرے شوہر ہیں	Hazaa zauji	هَذَا زَوْجِي
	Say hi to... for me	میرا سلام سنائیے	Sallimoo alaa ikhwaanikum wa sallim alaihi minni wa abligh assalaama anni	سَلِّمُوا عَلَيَّ إِخْوَانِكُمْ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ مِنِّي وَأَبْلِغِ السَّلَامَ عَنِّي

الحمد لله الذي  
بنعمته تتم الصالحات

